



GENV

ہمارا ماننا ہے کہ بچپن میں صحت کے مسائل کو دور کیا جا سکتا ہے۔

## GenV کی طرف سے نیپی سے نمونہ لینے کے لیے ہدایات


اپنے بچے کے پاخانے کا نمونہ لینا - آغاز سے پہلے

• براہ مہربانی یہ ہدایات پڑھیں


- کیا آپ کے بچے کی عمر ایک ہفتے سے کم ہے؟ بچے کی عمر 7 دن ہونے پر، یا اس کے بعد جلد از جلد، نمونہ حاصل کریں
- کیا آپ کے بچے کی عمر ایک ہفتے سے زیادہ ہے؟ جلد از جلد نمونہ حاصل کریں
- کیا آپ بھول گئی تھیں یا یہ کام مشکل رہا؟ کسی بھی وقت اپنا نمونہ ہمیں بھیج دیں - ہر نمونہ اہم ہے
- کیا کٹ گم ہو گئی ہے یا آپ سے غلطی ہو گئی ہے؟ - ہم سے رابطہ کریں:

فون: 1800 436 888 ویب سائٹ: [www.genv.org.au](http://www.genv.org.au)


- 1 آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہو گی:
1. یہ ہدایات
  2. نیپی سے نمونہ لینے کے لیے کٹ، اور
  3. ایک بین
- اپنے بچے کا گندا نیپی بدلیں
- گندے نیپی کو تب تک ایک طرف پڑا رہنے دیں جب تک آپ کا بچہ محفوظ جگہ پر واپس نہ پہنچ جائے (جیسے بے بی کاٹ میں)




- 2 گندے نیپی کو ایک ٹھوس سطح پر رکھ کر کھولیں
- ٹیوب کو مروڑ کر اور کھینچ کر کھولیں تاکہ سواب کا سرا نکل آئے
- دھیان رکھیں کہ سواب کا سرا آپ کی جلد یا کسی اور سطح سے نہ چھوئے




- 3 سواب کے سرے کو گندے نیپی میں پڑے پاخانے سے اس طرح نرمی سے چھوئیں کہ تھوڑا سا پاخانہ اس پر لگ جائے




- 4 بہت زیادہ پاخانہ نہ لیں
- سواب کے سرے کو صرف تھوڑا سا رنگین ہونا چاہیے




- 5 سواب کو اسی وقت واپس ٹیوب میں ڈال دیں
- سواب کے سرے کو اپنی جلد یا کسی دوسری سطح سے نہ چھوئے دیں
- ٹیوب کو کلک کر کے مضبوطی سے بند کر دیں



- 6 ٹیوب پر اس جگہ تاریخ لکھیں جہاں 'Date collected' لکھا ہے




- 7 ٹیوب کو سفید تھیلی میں ڈالیں
- تھیلی کے سروں کو اکتھے دباتے ہوئے اسے بند کر دیں اور کوشش کریں کہ اس میں ہوا کم سے کم رہے



- 8 سفید تھیلی کو اس لفافے میں ڈالیں جس کا ڈاک خرچ ادا کیا جا چکا ہے
- لفافے کو بند کریں
- اسے کمرے کے درجہ حرارت پر رکھا جا سکتا ہے (فریج یا فریزر میں نہ رکھیں)



- 9 ایک ہفتے کے اندر یا جلد از جلد یہ لفافہ GenV کو پوسٹ کر دیں - اسے آسٹریلیا پوسٹ کے کسی بھی لیٹر باکس میں ڈال دیں، ڈاک ٹکٹ لگانے کی ضرورت نہیں



اگلی نسل کو صحتمند ترین نسل بنانے میں مدد دینے کے لیے آپ کا شکریہ۔

V2.0 2022-05-20